07

Ziarat e Iran

تصویری البم

ایران

October 2001

قُم شریف



مزارِ پُر انوار
حضرت سیدہ فاطمہ رضؓ ہمشیرہ حضرت امام علی رضاؓ المعروف
سیدہ معصومہِ قم






مزارِ مبارک
سیدۃ معصومہ قم
(رات کا منظر)

یا فاطمہؑ اشفعي لنا
في الجنة

—



قم شریف




بیرونی منظر
مزار مبارک
سیدۃ فاطمہ رض



معصومہ قم کے بیرونی احاطہ
میں ہمرہان قافلہ


قم شریف

بیت النور





مقامِ سیدۃ معصومۂ قم



یہ وہ پُر کیف مقام ہے کہ جہاں سیدۃ معصومۂ قم نے اپنی زندگی کے



مزار متبارک

امام زاده السید أحمد بن قاسم


بن أحمد بن علی بن جعفر ع

السلام علیک یا امام السید أحمد






بیرونی منظر
مزار مبارک امامزاده
علی بن جعفر ع
(در قبرستان گلزار)



السلام علیک یا امام علی بن جعفر ع



بیرونی منظر
مزار متبارک امامزادگان




السید ابراهیم بن احمد بن موسی کاظم ع
و
السید احمد بن علی بن حسین ع

قم شریف




مزارِ مبارک
امام زادہ السید
علی بن ابراہیمؑ



السلامُ علیک یا امام
علی [illegible] اصغرؑ

مشہد شریف

بیرونی منظر امام زادہ ابراہیمؑ



السلام علیک
یا امام ابراہیمؑ



مُشہد شریف

مزارِ مبارک
امام زادہ زید رحہ






شہید تیمسیب چوک
چہار مرداں یا القدس چوک

متم تشریفی

مزار مبارک
امام زاده حمزه




مشهد شریف



منار مبارک
امام زادگان
السید موسی المبرقع
و
السید محمد بن موسی ع


السلام علیک یا امام زادگان



13

قسمت شریف

مرقد مبارک امام زاده
احمد بن اسحاق بن ابراهیم ع




قم شریف

مشہدستان چہل اختران




اس مقام پر اہل بیت اطہار کے چالیس ستارے
دفن ہیں




قُم شریف

مزار مبارک
امام زادہ زیدؑ



مسجد اعظم کی عظیم لائبریری
میں سیدہ نے اپنی تصانیف
پیش کیں وصولی کتب کا خط


میوزیم کے
انچارج کو ایک
شیلڈ اور حوزہ
نے دینی کتب
پیش کیں
—







قم شریف



مسجد جمکران



مسجد جمکران
(درات نامنظر)






مقبرہ مبارک
حکیم ابو علی سیناؒ



تربت حضرت ابوالحسن
خرقانیؒ بشمار کے ہم عصر
گزرے ہیں

لائبریری
حکیم ابو علی سینا



ہمدان وہ شہر ہے کہ جہاں پر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ جب ایک قافلے کے ہمراہ یہاں سے گزر رہے تھے تو لٹیروں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو روک لیا اور بالآخر آپ رضی اللہ عنہ کی صداقت بیانی



سے وہ تمام تائب ہوئے۔ ہمدان کی زمین نے بڑے بڑے عظیم فرزند جنم دیئے جن میں حکیم ابو سینا کے علاوہ میر سید علی ہمدانی ؒ جیسی ہستیاں شامل ہیں

بیرونی منظر
مزار مبارک



امام زاده هادی ابن علی ع



بیرونی منظر
مزار بابا طاہر عُریانؔ"



آپ کی قبر مبارک کے قریب
ایک عاشق آپ کے اشعار
بانسری میں پڑھ رہا ہے





ہمدان میں قافلہ "بابا طاہر عریانؒ" کا کلام سن رہا ہے





دعا کا ایک منظر / یہ بندہ بھی بانسری بجانے کی کوشش کر رہا ہے



بابا طاہر عریان کے مزار پر راجہ ریاض صاحب بھی بانسری کا
شوق پورا کر رہے ہیں





چشم روشن کن ز خاک اولیاء

موجودہ صوبہ گیلان



حضور غوث پاکؒ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ اُم الخیر رضؓ
کے مزار مبارک پر محفل نعت کا ایک منظر



صومعہ سیدہ مشدہ بتگیدن



حاجی محمد نواز صاحب کی والدہ ماجدہ کی طرف سے ارسال کردہ
"چادر مبارک" سیدۃ فاطمہ ام الخیر رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں پیش کرنے
کی تقریب۔



سید سعید سلا - منتوبه تگیدان





مزار مبارک رض

سیدة نساء ام الخیر

بنت

سید ابو عبدالله الصومعی رح



حضور غوث پاک کے سجادہ نشین جناب السید احمد ظفر گیلانی کی طرف سے
آپ کی والدہ ماجدہ کے مزار مبارک کے لیے پیش کردہ "چادر" متولیہ صاحبہ
کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔



بغداد شریف سے لائی ہوئی "چادر" حضور غوث پاکؒ کی
والدہ ماجدہ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے

صومعہ سرا - صوبہ گیلان



یا سیدہ فاطمہ اُم الخیرؓ ہمارا سلام اور حاضری
مقبول فرمائیے



صومعہ سرا۔ صوبہ گیلان



والدہ ماجدہ حضور غوث پاکؓ کا مزار مبارک

(یہ انتہائی پُرکیف اور پُرلطف مقام)



بسطام شریف

بیرونی منظر
بارگاه و مطهر نورانی سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی





بایزید
ولی الله



بسطام شریف



درگاه
حضرت بایزید بسطامیؒ



بسطام شریف





جای اعتکاف
حضرت بایزید بسطامی رح



مزار پُرانوار حضرت بایزید بسطامیؒ زده



رسمِ چادر پوشی

سنبلام شریف



ہم اپنے پیر کی چادر چڑھاتے ہیں



بسطام شریف



بایزیدؓ اندر خراسان زور اویسؓ اندر قرن



یہ انتہائی خوبصورت چادر حاجی محمد نواز صاحب کی بچیوں نے تیار کی

خرقان شریف



بارگاہ
حضرت ابو الحسن خرقانیؒ رحمۃ
کا خوبصورت منظر





حضرت ابوالحسن خرقانیؒ کی بارگاہ میں تمام حاضرین
ہدیہ سلام پیش کر رہے ہیں



خرقان شریف







مزار مبارک کی ایک دیوار
آپ کی ایک خیالی تصویر
لگی ہوئی ہے

مسجد
حضرت ابو الحسن خرقانی رح



خرقان شریف



رسم چادر پوشی کے بعد محفل نعت



سلام

به مناسبت دیدار هیئت ۷ نفرهٔ عاشقان پاکستانی

(حافظ افتخار احمد قادری، راجه ریاض، نعمت علی، پرفسور سرور شفقت، غلام مرتضی، محمد ریاض، نواز عادل)

از بارگاه حضرت ابو الحسن خرقانی عارف بزرگ اسلام

ابوالحسن که بود عارف جهان جان — مقام او شده محبوب مردم **خرقان**

ببین که جلوه گر آمد از او محبت ها — به نان عشق سپرده دهان هر انسان

سلام ما برسان بر همه جهان ادب — همان جهان که بود **بوالحسن** در آن پنهان

منم که آمده ام با برادران از دور — منم که **حافظ قرآن** شدم به پاکستان

جمال و جلوهٔ نور **ابوالحسن** در دل — نگر که این خرقان گشته مرکز عرفان

همین بود به حقیقت علوم انسانی — که **بوالحسن** زده نقش محبت انسان

خروش هر دل عاشق رسیده بر عالم — کمال عاشق صادق نوشته بر ایوان

اگرچه نان دهدش عارف سخن گستر — نبایدش که بپرسند ز دین و از ایمان

ابوالحسن که توای عارف طریق حق — سلام ما به توای عارف خجسته بیان

منم که آمده ام بهر دیدن رویت — که روی تو شده آیینه در همه ایران

به تربت تو رسیدیم ما ز خاک پاک — صفیر مرغ سحر می رسد به گوش جان

ستوده مرکز علم و ادب به نام تو — سپرده دفتر دل ها به سفرهٔ اخوان

رسیده هیئت عُشّاق تو ز ملک پاک — به «**لنگر**» تو شده جمله این زمان مهمان

ببین که **سرور شفقت** شده ز عُشّاقت — **نواز عادل** پندی رسیده از یاران

غلام راه حقیقت چو **مرتضی** باشد — یقین بود که **محمد ریاض** ما شادان

جمال **راجه ریاض** همچو ماه رخشان است — همان که **نعمت** پاک **علی** است نور افشان

منم که **ابن بطوطه** شدم به ملک پاک — هم **افتخار** و هم **احمد** شدم به دل یکسان

سفیر عشق و محبت همین مقابل تو — نثار جان و دل آورده در بَغَل قرآن

محمد«ص»**است** و **علی**«ع»**و آل و صَحب**«رض»**او اسلام** — برای این همگان جان و دل بود قربان

«**رها**» شده به طریق ادب رفیق ما — سروده شعر وفا در طریق دلداران

سرودهٔ : دکتر محمد حسین تسبیحی «رها»

۱۰ / ۷ / ۱۳۸۰ هش = ۱ / ۱۰ / ۲۰۰۱م

سروده فارسی از استاد جناب ڈاکٹر محمد حسین تسبیحی بمطابق حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ
کی بارگاہ سے بناء پر ایک سلام تحریر کیا اور اس منظومہ نذرانہ کا بارگاہ سے شرف

بارگاہ بے پناہ
حضرت ابوالحسن خرقانی رحمہ
محفلِ نعت کا ایک منظر





خرقان شریف



درگاہِ حضرت ابوالحسن خرقانی رح
کا ایک خوبصورت منظر



مسجد
حضرت ابوالحسن خرقانی رح

اس بندہ ناچیز کو یہاں پر اذان
دینے اور جماعت کروانے کا شرف
حاصل ہوا۔

ایں سعادت بزورِ بازو نیست

وللہ الحمد

ان شریف "لنگرِ فرقانیہ" کی تیاری کے مناظر









حضرت ابو الحسن خرقانیؒ کے زیر سایہ "لنگر" تیار کیا جا رہا ہے



تقسیمِ لنگر "خرقانیہ"


"آقای نقی احمد خان، رئیس بندہ کو "چادر مبارک" پیش کر رہے ہیں



راجہ محمد ریاض، مدیر درگاہ حضرت ابوالحسن خرقانیؒ آقای نقی احمد خان
اور حاجی محمد نواز




رے۔ تہران



مشہدِ رے میں پہاڑ کی چوٹی پر حضرت امام حسینؑ کی زوجہ محترمہ
حضرت بی بی شہر بانوؑ کا مزار مبارک

ی۔ تہران

مزارِ پُر انوار
حضرت بی بی شہر بانو رضہ



محفلِ نعت کا ایک منظر




یہ محفل ایک انتہائی پُر کیف مقام پر



مزارِ پُرانوار
حضرت شاہ عبد العظیم الحسنی رضہ


آپؓ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضہ
کی اولاد سے ہیں۔





مزار پُرانوار

امامزاده حمزة رض بن امام موسی کاظم ع




مزار پُرانوار

حضرت طاهر رض بن امام زین العابدین ع

مزار مبارک



امام زادہ محمد المحروق رضہ




ایک روایت کے مطابق آپ رضہ کو شہید کر کے جلا دیا گیا۔

سبحانپور

مزار پر انوار
امام زادہ سید ابراہیم رض







یہ نشانِ قدم حضرت
امام علی رضا رض کا بتایا
جاتا ہے اور امام زادہ
سید ابراہیم رض کے مزار پر
کی ایک دیوار میں
نصب ہے۔

نیشاپور



بیرونی منظر
حضرت شیخ فریدالدین عطارؒ

ایک خوبصورت باغ میں آپؒ کا
مزار مبارک ہے







گلستانِ فرید الدین عطارؒ ، ایک خوبصورت محفل



مزارِ مبارک
حضرت فرید الدین عطارؒ
پر چادر پوشی



نیشاپور





هفت شهر عشق را عطار گشت



ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم



حضرت فرید الدین عطارؒ
کی مرقدِ اقدس میں
حاضری کا ایک منظر

باغِ فرید الدین عطارؒ کا ایک
خوبصورت پھول



نیشابور



عطار روح بود سنائی دو چشم او
ما از پی سنائی و عطار آمدیم

رومی

عطار بنود آنکه خدا بود خدا بود
زو پاک وجود آنکه خدا بود خدا بود



مزارِ مبارک

حضرت شیخ سعید بن سلام المغربیؒ

تاریخ وصال 373 ہجری



اسی مقام کے قریب حضرت امام مسلمؒ کی قبر بھی
بتائی جاتی ہے لیکن کوئی نشان وغیرہ نہیں ملا

نیشاپور



حکیم عمر خیام کے مزار پر
حاضری کا ایک منظر

حکیم عمر خیام ایک مشہور و نامور شاعر
ہونے کے علاوہ بہت بڑے ریاضی دان
بھی ہو گزرے ہیں ۔




عمارت "قدمگاه"



این عمارت که اینجا مقام پسر حضرت امام علی رضا (ع)
که قدوم مبارک که نشانهاش پیدا

—

قدمگاه - نیشابور



عمارت "قدمگاه"
کاریک خود بصورت منظر



مقام "قدمگاه"

قدمگاه نیشابور



نشان قدوم مبارک حضرت امام علی رضا



قدمگاه
نیشابور



قدمگاہ۔ نیشاپور



مقام "قدم مبارک" حضرت امام علی رضاؑ



قدمگاه - نیشابور


چشمه حضرت امام علی رضا ع








مشهد مقدس



مزار متبارک
حضرت امام علی رضا رض
د بیرونی منظر

مشهد مقدس



مزار متبرک ره
حضرت امام علی رضا

مشہد مقدس

مزار مبارک حضرت امام رضاؓ



بیرونی منظر



مشہد مقدس



بیرونی مناظر
مزارِ مبارک
حضرت امام رضا رض



مشهد مقدس

مزار متبرک
حضرت خواجه مراد (ره)




از یاران و انصار حضرت امام رضا (ع)
اصحاب بیت عترت

مزار مبارک حضرت خواجه اباصلت(ع)



از صحابی حضرت امام رضا(ع) که اصحاب بسیار معروف ترین ایشان





شب برات ۱۴۲۲ھ
رات کے مناظر



مشہد مقدس
'رات کے آتشیں'



روضہ حضرت امام رضاؓ در شب براءت ۱۴۲۰ھ

رات کے مناظر





روضه امام رضا (ع) با دید
کلی صحنه منظر



روضه امام رضا (ع)
ورود زائرین با هجوم

مشهد مقدس



رات کے مناظر



مشهد مقدس




مشهد مقدس ایک تصویر مسشو دیوسب
مزار مبارک ءِ ایک عکس اد بنده

مشہد مقدس






مشہد مقدس





مشہد مقدس





مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان
خانہ ۳۔ کوچہ ۸۔ کوہستان روڈ ایف ۳/۸
اسلام آباد پاکستان



IRAN PAKISTAN
INSTITUTE OF PERSIAN STUDIES,
House 3, Street 8, Kohistan Road, F-8/3,
Islamabad (Pakistan)

شماره ۵۱/۲۸/۱۷۷
تاریخ ۱۳۸۰/۷/۱۰
پیوست ____

Ref. No. ____
Date. ____

مدیریت محترم آستانه‌های متبرک موجود در استانهای ایران بویژه استان خراسان

سلام علیکم

احتراماً ، ضمن معرفی آقای افتخار احمد حافظ قادری از اهالی پاکستان (ساکن در شهر راولپندی) که از علاقه مندان به اولیای دین و بزرگان عرفا می‌باشند، به اطلاع می رساند حاصل سفرهای متعدد و بازدید از مزار بزرگان دین سفر نامه هایی است که از ایشان منتشر شده و در اختیار کتابخانه این مرکز نیز قرار گرفته است. باعنایت به اینکه نامبرده و هیأت همراه : پرفسور محمد شفقت (استاد دانشگاه) ، غلام مرتضی ،راجه ریاض، نعمت علی ، محمد ریاض ،نواز عادل (بازرگان) ، برای زیارت اماکن متبرک از جمله آستان ملکوتی امام رضا (ع) عازم جمهوری اسلامی ایران شده اند، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند که مسئولان ذی ربط همکاریهای لازم را با ایشان برای تهیه سفرنامه ای مصور به زبان اردو مبذول فرمایند.



باتشکر
دکتر سعید بزرگ بیگدلی
مدیر مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

Office Telephone : 2263192 - 4
Telegrams : FARSI ISLAMABAD.